



NRP پروڈکٹس کے لئے حقائق پر مبنی اہم بیان (یکم جنوری 2026 سے مؤثر)

برانچ _____		تاریخ _____		اہم: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھولنے پر غور کر رہے ہیں تو اس دستاویز کو بخور پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہے۔ آپ دوسرے بینکوں کے ذریعے پیش کردہ خلاف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لئے بھی اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کے لئے دوسرے بینکوں سے کے ایف ایس وصول کرنے کا حق ہے۔	
فہر _____		اکاؤنٹ کی اقسام اور نمایاں خصوصیات:			
				یہ معلومات مذکورہ تاریخ کے مطابق درست ہیں۔ خدمات، فیس اور مارک اپ ریف کٹھاٹی پی پی پی کے حساب سے ہیں۔ ہماری میڈی فیس / چارجز کے لئے، آپ ہماری ویب سائٹ یا ہماری براؤزنگ ڈسٹ کر سکتے ہیں۔	
تفصیلات		نیا ریٹرنٹ کرنٹ اکاؤنٹس			نیا ریٹرنٹ سیونگ اکاؤنٹ
		ریٹرنٹ ٹیل (ایچ آر اے آر)	نیا ریٹرنٹ ٹیل (ایچ آر اے آر)	مندان کرمی (ایچ آر اے آر)	مندان کرمی (ایچ آر اے آر)
کرمی		پاکستانی روپے		ڈالر روپہ پائو	پاکستانی روپے
اکاؤنٹ کے لئے کم سے کم سیٹلنگ	کھلوانے کیلئے	0 روپے			
	برقرار رکھنے کیلئے				
اکاؤنٹ کی منقش فیس		مندان اطلاق نہیں			
کیا اکاؤنٹ پر منافع دیا جاتا ہے (مثالی اطلاق فیس کی شرح سے مشروط ہے)					
منافع بخش اشعارے					
منافع کی ادائیگی کی تعداد					
مثلاً (1000 روپے پر آپ 100 روپے کم کر دیتے ہیں۔ مثلاً 1000 روپے پر آپ 100 روپے کم کر دیتے ہیں۔)		80.00/-		80.00/-	ڈالر 1 پائو 0.5
سروس چارجز	اقام	سروس چارجز: یہ اکاؤنٹ کے لئے اہم سروس چارجز کی فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل ہیں۔ آپ کو ہماری ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ شدہ چارجز کی فہرست مل سکتی ہے۔ www.soneribank.com اور تمام ہمارے چھپرائے ہوئے دست کر لیں کہ تمام چارجز مثالی اطلاق فیسوں کے علاوہ ہیں۔			

Page 2 of 3



Soneri Bank

ٹان ریڈیٹنٹ سٹیونگرو اکاؤنٹس		ٹان ریڈیٹنٹ کرمنٹ اکاؤنٹس		اقسام	سروسز
مندان کرمنٹ (این آر سی ایف سی ہائی)	ٹان ریڈیٹنٹ ٹیکل (این آر سی ایف سی ہائی)	مندان کرمنٹ (این آر سی ایف سی ہائی)	ٹان ریڈیٹنٹ ٹیکل (این آر سی ایف سی ہائی)		
7 ڈار فی ٹرانزیکشن بین کورنٹر چار جی ڈیگر کرمنٹ (چار جی ایس ایس کے مطابق عساکہ ہوں گے)	0 روپے	7 ڈار فی ٹرانزیکشن بین کورنٹر چار جی (ڈیگر کرمنٹ چار جی ایس ایس کے مطابق عساکہ ہوں گے)	0 روپے	ٹارسل	کلیمزنگ (ہار)
	400 روپے فی انسٹرومنٹ		400 روپے فی انسٹرومنٹ	انسٹرومنٹ	
	600 روپے فی انسٹرومنٹ		600 روپے فی انسٹرومنٹ	ای سی دن	
مفت				کسٹمر کی درخواست	اکاؤنٹ کی بندش
لازمی معلوم ہونا چاہیے					
اکاؤنٹ کھولنے کی ضروریات: اکاؤنٹ کھولنے کے لئے آپ کو ریگولیشنری ہدایات اور بینک کی احساندہ پالیسی کے مطابق شہادت کی کچھ ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں آپ کی شہادت کی تصدیق کے لئے دستاویزات اور معلومات کی فہرست شامل ہو سکتی ہے۔ وقت فوقت ایسی معلومات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ براہ مہربانی سبزیہ تصدیقات کے لئے ہم سے رابطہ کریں۔ چیک ہاؤس: بے لسانی سے چیک کا حیدر پاکستان پینسل کوڈ کی دفعہ 489F کے مطابق حیدر مات غلط ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو ایجنسی اختیار کے ساتھ چیک لکھنا چاہیے۔ سیفنگ کلائی: آپ کے اکاؤنٹ بینک رسائی کے لئے محفوظ تحویل جیسے ڈیپازٹ، ہارڈ، ایجنٹ، ایجنٹنگ، پوز، ٹریڈ پاس ورڈ، دیگر ذاتی معلومات، وغیرہ، آپ کی ذمہ داری ہے۔ صارف کی جانب سے کیونکہ خطرات کی صورت میں بینک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ معلومات کے حصول کیلئے سبزیہ بینک کی جانب سے آپ کو بھی کال میں کی جائے گی۔ ریکارڈنگ پیمیشن: کسی بھی اہم ہواصلات کی ضرورت سے پہلے کے لئے ہیش بینک کے پاس موجود پروڈکٹس / ریکارڈنگ آپ ڈیٹ ریکس۔ آپ اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرانے کے لئے متعلقہ برانچ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس اکاؤنٹ کو طویل عرصے تک استعمال نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کا اکاؤنٹ 12 ماہ تک حیدر فعال رہتا ہے تو، اس کو حیدر فعال سمجھا جائے گا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ حیدر فعال ہو جاتا ہے تو، آپ اکاؤنٹ سے کوئی بھی ڈیپازٹ ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے تاہم کریڈٹ ٹرانزیکشن حیدر رہے گی۔ اپنے اکاؤنٹ کو فعال کرنے کے لئے آپ کو دستخط شدہ وورمنٹ اکاؤنٹ ری ایکٹیویشن فہم جن کرنا ہوگا۔ اگر ایک پیشتر / فیملی بائیو میٹرک تصدیق یا ہار 6 ماہ بعد لاک سرٹیفیکٹ چھ کرانے میں تاہم رہتا / رہتی ہے پیمیشن اپنے اکاؤنٹ سے مسلسل 6 ماہ تک چیننگولنے میں تاہم رہتا ہے یا ہار / بین / این سالانہ نان میرن سرٹیفیکٹ چھ کرانے میں تاہم رہے تو اکاؤنٹ حیدر فعال ہو جائے گا۔					
میں حفاظتی پرستی اس بیان کی وصولی اور اس کو بخوبی سمجھنے کا اعتراف کرتا ہوں					
کسٹمر کا نام:					
تخت شدہ پروڈکٹ:					
اکاؤنٹ کی آپریشنز:					
پتہ:					
برائے رابطہ:					
کسٹمر کے دستخط:					